

# آپ کسے چنیں گے؟

(2)

(1)



اونیٹریو میں موجود وسائل جو اسکے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

زیادتی زدہ خواتین کی ہیلپ لائن/مدد

200 سے زائد زبانوں میں

24 گھنٹے کی مددگار لائن

1-866-0511-863

سماعت سے محروم سماعت میں دشواری

رکھنے والے افراد: 1-886-863-7368

[awhl.org](http://awhl.org)

آپکے قانونی حقوق

یہ آن لائن کتابچہ ہے جو زیادتی زدہ

خواتین کے قانونی حقوق کے بارے

میں ہے۔

[cleo.on.ca/en/publications/handbook](http://cleo.on.ca/en/publications/handbook)

جنسی حملہ/گھریلو تشدد کے علاج کے مراکز۔

اپنا قریبی مرکز تلاش کیجئے۔

[satontario.com/en/locate\\_centre.php](http://satontario.com/en/locate_centre.php)

محفوظ منصوبہ بندی۔

آن لائن ایک محفوظ منصوبہ بندی پلان کی

تلاش کیجئے اور اسے پرنٹ کر لیں اور

استعمال کریں۔

[immigrantandrefugeenff.ca/need-help/safety-planning](http://immigrantandrefugeenff.ca/need-help/safety-planning)

پناہ گاہ تلاش کیجئے۔

محفوظ پناہ گاہ ویب سائٹ۔

[sheltersafe.ca](http://sheltersafe.ca)

211 Transitional Housing Page

[211ontario.ca/211-topics/housing/transitional-housing](http://211ontario.ca/211-topics/housing/transitional-housing)

لسانی مترجم کی خدمات

ایسی خواتین سے گفتگو کے لئے جو گھریلو

تشدد کی متاثرین ہوں، جنسی تشدد یا انسانی

سمگلنگ کی۔ خدمات فراہم کرنے والوں کے

لئے مترجم موجود ہیں، 70 زبانوں میں (اور

اشاروں کی زبان بھی)۔

[languageinterpreters.on.ca](http://languageinterpreters.on.ca)

مزید وسائل تلاش کیجئے اور مدد کرنے کے

طریقے سیکھئے۔

ترک وطن اور پناہ گزینوں کی کمیونٹی میں

جائیے۔ ہمسائیوں، دوستوں اور خاندان کی مہم

کی ویب سائٹ

پر جائیے

[immigrantandrefugeenff.ca](http://immigrantandrefugeenff.ca)

اونیٹریو میں قانونی مدد کے لئے۔

امیگریشن کی حیثیت کے قطع نظر گھریلو

تشدد کے متاثرین، 2 گھنٹے کی مفت

قانونی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں

1-800-668-8258

[legallaid.on.ca](http://legallaid.on.ca)

جنسی حملہ کے شکار کے امدادی مراکز

اپنا قریبی مرکز تلاش کیجئے۔

[sexualassaultsupport.ca/support](http://sexualassaultsupport.ca/support)

**OCASI**  
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

**Neighbours, Friends & Families**  
Immigrant & Refugee Communities

(2) یہ گالم گلوچ ہے۔



(1) یہ محفوظ و صحت مند محبت ہے۔



## گالم گلوچ کسے کہتے ہیں؟

جب کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے وہ آپ پر قادر ہو سکے اور آپ کو نیچا دکھا سکے۔ تو وہ گالم گلوچ کہلاتا ہے۔ آپکو برے ناموں سے بلانا یا بیکار / ناکارہ کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپکو برے ناموں سے پکارے یا آپکو ناکارہ کہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر چلائیں یا دھمکی آمیز لہجہ استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ وہ شائید آپکے یا آپکے عزیزوں کے خلاف دھمکیاں دیں۔

## کسی بھی قسم کی زیادتی کبھی درست نہیں ہے۔

زیادتی جسمانی، جنسی، زبانی، جذباتی، مالی، نفسیاتی یا روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تعاقب بھی ہو سکتا ہے یا ٹیکنالوجی کی مدد آپکا پتہ لگانا بھی۔ یہ تنہا کرنے کا یا قابضانہ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس زیادتی میں وسیع خاندان بھی شامل ہو سکتا ہے۔ زیادتی ہر برادری میں ہوتی ہے۔

اگر آپ بدسلوکی کے ساتھ رہ رہے ہیں اس میں آپکی غلطی نہیں ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کارڈ کی پشت پر دیے گئے وسائل آپکی مدد کر سکتے ہیں۔

## مجھے کیسے پتا چلے گا اگر میرا ہمسایہ، دوست یا خاندان کا کوئی فرد زیادتی کی زد میں رہ رہا ہے؟

### کیا آپکا دوست---

افسرہ اور کچھی کچھی سی نظر آتی ہے؟  
اُس کی موجودگی میں بات کرنے سے ڈرتی ہے؟  
منصوبے منسوخ کرتی ہے اور آپ سے کتراتے ہے؟  
اُسکے رویہ کی معافی مانگتی ہے یا اُسکی طرفداری کرتی ہے؟  
بیماری کی بناء پر زیادہ غیر حاضری؟  
زخموں کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے؟  
ان سب سے نمٹنے کے لئے شراب یا منشیات کا استعمال کرتی ہے یا سہارا لیتی ہے؟

### آپکے دوست کا ساتھی---

ایسے ظاہر کرتا ہے کہ جیسے اُس کا مالک ہو؟  
جب بھی وہ دونوں ساتھ ہوں تو صرف وہی بات چیت کرتا ہے؟  
اسے نیچا دکھاتا ہے؟  
کہتا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور اُداسی کا اظہار کرتا ہے؟  
اپنے آپکو اوروں سے برتر تصور کرتا ہے؟  
اُسے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے؟  
اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے؟

اگر آپ ان میں سے کوئی بھی زیادتی کے انتہائی علامات دیکھیں

دیکھو۔ انتہائی علامات دیکھ کر نظر انداز نہ کرو۔

کہو۔ اگر محفوظ ہو تو اُسے بتاؤ کہ آپکو کیا خدشہ ہے۔

روکو۔ اُسے وسائل فراہم کرو جو اُسکے لئے مددگار ثابت ہوں۔ مثلاً کارڈ کی پشت پر دیکھئے

اگر وہ اُسے چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تو "محفوظ منصوبہ" بنانے پر اُسکی حوصلہ افزائی کریں۔